



# صحیح سورج کی مدد سے تج

سمتِ قبلہ معلوم کیجئے (Qibla Direction)



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## 28/27 منی کو سورج کی مدد سے صحیح سمت قبلہ (Direction of Qibla) معلوم کیجئے

سال میں 2 مرتبہ (28/27 منی اور 15/16 جولائی کو) سورج کعبہ معنظمہ کے اوپر آتا ہے۔ اور اس وقت کسی شے (Object) کے بنے والے سایے (Sun Shadow) کی مدد سے (مساجد اور گھروں وغیرہ کیلئے) بآسانی درست سمت قبلہ معلوم کی جاسکتی ہے۔ توجہ خاص: اگر اصل قبلہ سے (دائیں یا باکیں) 45 درجہ کے اندر اندر نمازیں پڑھیں گئیں، ادا ہو گئیں۔

(خلاصہ بہار شریعت ج اول حصہ 3 ص 487 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی)

طریقہ: 28/27 منی کو عرب شریف کے وقت کے مطابق دن 12:18 (گرین وچ کے مطابق صبح کے 9:18) پر کسی بھی لکڑی یا سریے (Iron Rod) وغیرہ کو عموداً (Vertical) کھڑا کریں اس احتیاط سے کے وہ کسی جانب جھکانہ ہو۔ یا کسی ڈوری کے سرے پر کوئی وزنی چیز باندھ کر لٹکا گئیں۔

اب درج شدہ وقت پر بننے والے سائے کے پر کوئی نشان لگادیں۔ (دیگر مشہور ممالک کے اوقات آخر میں درج ہیں) اگر یہ مل 4,2 منٹ قبل یا بعد بھی کیا تو کوئی حرج نہیں۔

اب سائے کے نشان پر کھڑے ہو کر اس لکڑی، سریے (Iron Rod) یا ڈوری کی جانب رخ کرنے سے عین کعبہ کو رخ ہو جائے گا۔

معیاری وقت	ممالک کے نام
9:18 AM	گھانا، گمبیا، ماریٹانیہ، مالی، ٹوگو وغیرہ
10:18 AM	برطانیہ (U.K)، آئس لینڈ، آئر لینڈ، بین، ناگر، ناجیر یا، کونگو وغیرہ
11:18AM	البانیہ، آسٹریا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی، نیدر لینڈ، ناروے، اسپین، سویڈن، مصر، بوئوسانا، بیتھو، ملاوی، موزمبیق وغیرہ
12:18 PM	عرب شریف، بحرین، عراق، کینیا، کویت، قطر، تنزانیہ، یمن، سوڈان، بلغاریہ، گریک، ترکی، جوڑ ڈن، لبنان، فلسطین، شام وغیرہ
1:18 PM	عرب امارات، عمان، موریشس وغیرہ
1:48 PM	ایران، افغانستان
2:18 PM	پاکستان، تا جکستان وغیرہ
2:48 PM	انڈیا، سی لکنا
3:03 PM	نیپال
3:18 PM	بنگلادیش
4:18 PM	انڈونیشیا (جاوا)، تھائیلینڈ
5:18 PM	چین، ھانگ کانگ، ملائیشیا، فلپائن، سنگاپور، تائیوان، انڈونیشیا (کائیمنز) وغیرہ
6:18 PM	جاپان، کوریا